

# Rev

## Chapter 13

### Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα,  
اور میں نے دیکھا اس سے سمندر حیوان اُٹھتا ہوا رکھتا ہوا سینگ دس  
[G2532](#) [G3708](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2281](#) [G2342](#) [G0305](#) [G2192](#) [G2768](#) [G1176](#)

καὶ κεφαλὰς ἑπτὰ, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ, δέκα διαδήματα, καὶ  
اور سر سات اور پر اُن سینگوں اُس کے دس تاج اور  
[G2532](#) [G2776](#) [G2033](#) [G2532](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2768](#) [G0846](#) [G1176](#) [G1238](#) [G2532](#)

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ, ὀνόματα βλασφημίας.  
پر اُن سروں اُس کے نام کفر کے  
[G1909](#) [G3588](#) [G2776](#) [G0846](#) [G3686](#) [G0988](#)

تھا۔ نام ایک کا کفر پر سر ہر اور تاج ایک پر سینگ ہر تھے۔ سر سات اور سینگ دس کے اُس ہے۔ رہا نکل حیوان ایک سے میں سمندر کہ دیکھا نے میں پھر

2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες  
اور وہ حیوان جو میں نے دیکھا تھا مشابہ چیتے سے اور اُس کے پاؤں  
[G2532](#) [G3588](#) [G2342](#) [G3739](#) [G3708](#) [G1510](#) [G3664](#) [G3917](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4228](#)

αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος; καὶ ἔδωκεν  
اُس کے جیسے ریحہ کے اور اُس کا منہ اُس کا منہ جیسے شیر کا اور دیا  
[G0846](#) [G5613](#) [G0715](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4750](#) [G0846](#) [G5613](#) [G4750](#) [G3023](#) [G2532](#) [G1325](#)

αὐτῶ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ  
اُسے اُس اڑدھے نے اپنی قوت اپنی اور اپنا تخت اپنا اور  
[G0846](#) [G3588](#) [G1404](#) [G3588](#) [G1411](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2362](#) [G0846](#) [G2532](#)

ἐξουσίαν μεγάλην.  
اختیار بڑا  
[G1849](#) [G3173](#)

دے اختیار بڑا اور تخت اپنا قوت، اپنی کو حیوان اِس نے اڑدھے تھا۔ منہ سا کا شیرببر اور پاؤں سے کے ریحہ کے اُس لیکن تھا۔ مانند کی چیتے حیوان یہ دیا۔

3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον; καὶ  
اور ایک سے اُن سروں اُس کے جیسے ذبح کیا ہوا تک موت اور  
[G2532](#) [G1520](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2776](#) [G0846](#) [G5613](#) [G4969](#) [G1519](#) [G2288](#) [G2532](#)

ἢ πληγῇ, τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐθεραπεύθη; καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ γῆ  
اُس کا زخم اُس موت کا اُس کی شفا پاپا اور حیران ہوئی ساری وہ زمین  
[G3588](#) [G4127](#) [G3588](#) [G2288](#) [G0846](#) [G2323](#) [G2532](#) [G2296](#) [G3650](#) [G3588](#) [G1093](#)

ὅπισω τοῦ θηρίου.  
پیچھے اُس حیوان کے  
[G3694](#) [G3588](#) [G2342](#)

کے حیوان اور بوئی زدہ حیرت کر دیکھ یہ دنیا پوری گئی۔ دی شفا کو زخم اِس لیکن ہے۔ لگا زخم لاعلاج پر ایک سے میں سروں کے حیوان کہ تھا لگتا گئی۔ لگ پیچھے

- 4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι, ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ;  
اور سجده-کیا اس کو اڑدھے-کو کیونکہ دیا وہ اختیار اس کو حیوان-کو  
[G2532](#) [G4352](#) [G3588](#) [G1404](#) [G3754](#) [G1325](#) [G3588](#) [G1849](#) [G3588](#) [G2342](#)
- καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ, λέγοντες, Τίς ὁμοιος τῷ θηρίῳ? καὶ τίς  
اور سجده-کیا اس کو حیوان-کو کہتے-بوئے کون مشابہ اس کے حیوان-کے اور کون  
[G2532](#) [G4352](#) [G3588](#) [G2342](#) [G3004](#) [G5101](#) [G3664](#) [G3588](#) [G2342](#) [G2532](#) [G5101](#)
- δύνатаι πολεμῆσαι μετ' αὐτοῦ?  
سکتا-ہے لڑنا ساتھ اس-کے  
[G1410](#) [G4170](#) [G3326](#) [G0846](#)

ہے؟ مانند کی حیوان اس کون کیا، سجده بھی کو حیوان کر کہہ یہ نے انہوں اور تھا۔ دیا اختیار کو حیوان نے اسی کیونکہ کیا، سجده کو اڑدھے نے لوگوں ہے؟ سکتا لڑ سے اس کون

- 5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας; καὶ ἐδόθη αὐτῷ  
اور دیا-گیا اسے منہ بولتا-بوا بڑی-باتیں اور کفر اور دیا-گیا اسے  
[G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G4750](#) [G2980](#) [G3173](#) [G2532](#) [G0988](#) [G2532](#) [G1325](#) [G0846](#)
- ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα [καὶ] δύο.  
اختیار کرنے-کو مہینے چالیس اور دو  
[G1849](#) [G4160](#) [G3376](#) [G5062](#) [G2532](#) [G1417](#)

گیا۔ مل لئے کے مہینے 42 اختیار کا کرنے یہ اسے اور گیا۔ دیا اختیار کا بکنے کفر اور باتیں بڑی بڑی کو حیوان اس

- 6 καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ, εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν Θεόν,  
اور کھولا اس نے منہ اپنا لیے کفر-کے خلاف اس کے خدا-کے  
[G2532](#) [G0455](#) [G3588](#) [G4750](#) [G0846](#) [G1519](#) [G0988](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2316](#)
- βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ  
کفر-بکنے اس نام اس کے اور اس خیمہ اس کے میں اس  
[G0987](#) [G3588](#) [G3686](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4633](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#)
- οὐρανῷ σκηνοῦντας.  
آسمان بسنے-والوں-کو  
[G3772](#) [G4637](#)

لگا۔ بکنے کفر پر باشندوں کے آسمان اور گاہ سکونت کی اس نام، کے اس اللہ، کر کھول منہ اپنا وہ یوں

- 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων, καὶ νικῆσαι αὐτούς;  
اور دیا-گیا اسے کرنے-کو جنگ ساتھ ان مقدسوں-کے اور جیتنے انہیں  
[G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G4160](#) [G4171](#) [G3326](#) [G3588](#) [G0040](#) [G2532](#) [G3528](#) [G0846](#)
- καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν, καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν, καὶ  
اور دیا-گیا اسے اختیار پر ہر قبیلے اور قوم اور زبان اور  
[G2532](#) [G1325](#) [G0846](#) [G1849](#) [G1909](#) [G3956](#) [G5443](#) [G2532](#) [G2992](#) [G2532](#) [G1100](#) [G2532](#)
- ἔθνος;  
امت  
[G1484](#)

گیا۔ دیا اختیار پر قوم ہر اور زبان ہر امت، ہر قبیلے، ہر اسے اور گیا۔ دیا بھی اختیار کا پانے فتح پر ان کے کر جنگ سے مقدسین اسے

8	καὶ	προσκυνήσουσιν	αὐτὸν	πάντες	οἱ	κατοικοῦντες	ἐπὶ	τῆς	γῆς,	οὗ
	اور	سجدہ-کریں-گے	اُسے	سب	وہ	بسنے-والے	پر	اُس	زمین-کے	جن-کے
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G4352</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G3956</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2730</a>	<a href="#">G1909</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G3739</a>
	οὐ	γέγραπται,	τὸ	ὄνομα	αὐτοῦ	ἐν	τῷ	βιβλίῳ	τῆς	ζωῆς
	نہیں	لکھا-گیا	وہ	نام	اُن-کا	میں	اُس	کتاب	اُس	زندگی-کی
	<a href="#">G3756</a>	<a href="#">G1125</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G3686</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0975</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2222</a>
	τοῦ	ἔσφαγμένου,	ἀπὸ	καταβολῆς	κόσμου.					
	جو	ذبح-کیا-گیا	سے	بنیاد	دنیا-کی					
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4969</a>	<a href="#">G0575</a>	<a href="#">G2602</a>	<a href="#">G2889</a>					

کی لیلے اُس ہیں، نہیں درج میں حیات کتاب کی لیلے سے ابتدا کی دنیا نام کے جن سب وہ یعنی گے کریں سجدہ کو حیوان اس باشندے تمام کے زمین ہے۔ گیا کیا ذبح جو میں کتاب

9	Εἴ	τις	ἔχει	οὖρ,	ἀκουσάτω.
	اگر	کوئی	رکھتا-ہے	کان	سُنے
	<a href="#">G1487</a>	<a href="#">G5100</a>	<a href="#">G2192</a>	<a href="#">G3775</a>	<a href="#">G0191</a>

لے! سن وہ ہے سکتا سن جو

10	εἴ	τις	εἰς	αἰχμαλωσίαν	εἰς	αἰχμαλωσίαν	ὑπάγει;	εἴ	τις	ἐν
	اگر	کوئی	میں	قید	میں	قید	جاتا-ہے	اگر	کوئی	سے
	<a href="#">G1487</a>	<a href="#">G5100</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G0161</a>	<a href="#">G1519</a>	<a href="#">G0161</a>	<a href="#">G5217</a>	<a href="#">G1487</a>	<a href="#">G5100</a>	<a href="#">G1722</a>
	μαχαίρη	ἀποκτανθῆναι,	ἰδεῖν	αὐτὸν	ἐν	μαχαίρη	ἀποκτανθῆναι.	ἴδω	ἐστίν	
	تلوار	قتل-بونا	ضرور-ہے	اُسے	سے	تلوار	قتل-بونا	یہاں	ہے	
	<a href="#">G3162</a>	<a href="#">G0615</a>	<a href="#">G1163</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G3162</a>	<a href="#">G0615</a>	<a href="#">G5602</a>	<a href="#">G1510</a>	
	ἡ	ὑπομονὴ	καὶ	ἡ	πίστις	τῶν	ἀγίων.			
	وہ	صبر	اور	وہ	ایمان	اُن	مقدسوں-کا			
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G5281</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4102</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G0040</a>			

وفادار اور قدمی ثابت کو مقدسین اب گا۔ مرے ہی ایسے وہ تو ہے مرنا کر آمیں زد کی تلوار کو کسی اگر گا۔ بنے ہی قیدی وہ تو ہے بننا قیدی کو کسی اگر ہے۔ ضرورت خاص کی ایمان

11	Καὶ	εἶδον	ἄλλο	θηρίον	ἀναβαῖνον	ἐκ	τῆς	γῆς,	καὶ	εἶχεν	κέρατα
	اور	دیکھا	میں-نے-دیکھا	اور	حیوان	اُٹھتا-ہوا	سے	اُس	زمین	اور	رکھتا-تھا
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3708</a>	<a href="#">G0243</a>	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G0305</a>	<a href="#">G1537</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G2192</a>	<a href="#">G2768</a>
	δύο	ὄμοια	ἀρνίω,	καὶ	ἐλάλει	ὡς	δράκων;				
	دو	مشابہ	بڑے-کے	اور	بولتا-تھا	جیسے	اژدھا				
	<a href="#">G1417</a>	<a href="#">G3664</a>	<a href="#">G0721</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G2980</a>	<a href="#">G5613</a>	<a href="#">G1404</a>				

تھا۔ سا کا اژدھے انداز کا بولنے کے اُس لیکن تھے، سینگ دو سے کے لیلے کے اُس تھا۔ رہا نکل سے میں زمین وہ دیکھا۔ کو حیوان اور ایک نے میں پھر

12	καὶ	τὴν	ἐξουσίαν	τοῦ	πρώτου	θηρίου	πᾶσαν	ποιεῖ	ἐνώπιον	αὐτοῦ,	καὶ
	اور	وہ	اختیار	اُس	پہلے	حیوان-کا	سارا	کرتا-ہے	سامنے	اُس-کے	اور
	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1849</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4413</a>	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G3956</a>	<a href="#">G4160</a>	<a href="#">G1799</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2532</a>
	ποιεῖ	τὴν	γῆν	καὶ	τοὺς	ἐν	αὐτῇ	κατοικοῦντας,	ἵνα	προσκυνήσουσιν	
	کرتا-ہے	اُس	زمین-کو	اور	اُن	میں	اُس	بسنے-والوں-کو	تاکہ	سجدہ-کریں	
	<a href="#">G4160</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1093</a>	<a href="#">G2532</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G1722</a>	<a href="#">G0846</a>	<a href="#">G2730</a>	<a href="#">G2443</a>	<a href="#">G4352</a>	
	τὸ	θηρίον	τὸ	πρῶτον,	οὗ	ἐθεραπεύθη	ἡ	πληγὴ	τοῦ	θανάτου	αὐτοῦ.
	اُس	حیوان-کو	اُس	پہلے	جس-کا	شفا-پایا	وہ	زخم	اُس	موت-کا	اُس-کی
	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2342</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4413</a>	<a href="#">G3739</a>	<a href="#">G2323</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G4127</a>	<a href="#">G3588</a>	<a href="#">G2288</a>	<a href="#">G0846</a>

کو حیوان اُس یعنی اُکسایا، پر کرنے سجدہ کو حیوان پہلے کو باشندوں کے اُس اور زمین کے کر استعمال خاطر کی اُس اختیار پورا کا حیوان پہلے نے اُس تھا۔ گیا پھر زخم لاعلاج کا جس

13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  
اور کرتا ہے نشانیاں بڑی تاکہ بھی آگ کرے سے اُس آسمان  
G2532 G4160 G4592 G3173 G2443 G2532 G4442 G4160 G1537 G3588 G3772

καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.  
اُترنے پر اُس زمین سامنے اُن انسانوں کے  
G2597 G1519 G3588 G1093 G1799 G3588 G0444

دی۔ ہونے نازل آگ پر زمین سے آسمان دیکھتے دیکھتے کے لوگوں نے اُس کہ تک یہاں دکھائے، نشان معجزانہ بڑے نے اُس اور

14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὰ σημεῖα ἃ  
اور گمراہ کرتا ہے اُن بسنے والوں کو پر اُس زمین کے اُن ذریعے اُن نشانوں کے جو  
G2532 G4105 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G1223 G3588 G4592 G3739

ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς  
دیا گیا اُسے کرنے کو سامنے اُس حیوان کے اُن کہتا ہوا اُن سے اُسے والوں سے پر اُس  
G1325 G0846 G4160 G1799 G3588 G2342 G3004 G3588 G2730 G1909 G3588

γῆς, ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης,  
زمین کے بنانے کو تصویر اُس حیوان کی جو رکھتا ہے وہ زخم اُس کا  
G1093 G4160 G1504 G3588 G2342 G3739 G2192 G3588 G4127 G3588 G3162

καὶ ἔζησεν.  
اور جیا  
G2532 G2198

انہیں نے اُس بہکایا۔ سے راہ صحیح کو باشندوں کے زمین نے اُس ذریعے کے اُن اور گیا، دیا اختیار کا دکھانے نشان معجزانہ خاطر کی حیوان پہلے اُسے یوں  
تھا۔ ہوا زندہ دوبارہ باوجود کے ہونے زخمی سے تلوار جو دیں بنا مجسمہ ایک میں تعظیم کی حیوان اُس وہ کہ

15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ  
اور دیا گیا اُسے دینے کو روح اُس تصویر کو اُس حیوان کی تاکہ بھی  
G2532 G1325 G0846 G1325 G4151 G3588 G1504 G3588 G2342 G2443 G2532

λαλήσῃ ἢ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήσῃ ἵνα ὄσοι ἐὰν μὴ  
بولے وہ تصویر اُس حیوان کی اور کرے تاکہ جتنے اگر نہ  
G2980 G3588 G1504 G3588 G2342 G2532 G4160 G2443 G3745 G1437 G3361

προσκυθήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἀποκτανθῶσιν.  
سجدہ کریں اُس تصویر کو اُس حیوان کی قتل کیے جائیں  
G4352 G3588 G1504 G3588 G2342 G0615

تھے۔ کرتے انکار سے کرنے سجدہ اُسے جو سکے کروا قتل انہیں اور سکے بول مجسمہ تاکہ گیا دیا اختیار کا ڈالنے جان میں مجسمے کے حیوان پہلے اُسے پھر

16 καὶ ποιεῖ πάντα τοὺς μικροὺς, καὶ τοὺς μεγάλους; καὶ τοὺς πλουσίους,  
اور کرتا ہے سب کو اُن چھوٹوں اور اُن بڑوں اور اُن امیروں  
G2532 G4160 G3956 G3588 G3398 G2532 G3588 G3173 G2532 G3588 G4145

καὶ τοὺς πτωχοὺς; καὶ τοὺς ἐλευθέρους, καὶ τοὺς δούλους; ἵνα δῶσιν  
اور اُن غریبوں اور اُن آزادوں اور اُن غلاموں تاکہ دیں  
G2532 G3588 G4434 G2532 G3588 G1658 G2532 G3588 G1401 G2443 G1325

αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον  
انہیں نشان پر اُس ہاتھ اُن کے اُس دائیں یا پر اُس پیشانی  
G0846 G5480 G1909 G3588 G5495 G0846 G3588 G1188 G2228 G1909 G3588 G3359

αὐτῶν;  
اُن کی  
G0846

غلام۔ یا بو آزاد غریب، یا بو امیر بڑا، یا بو چھوٹا وہ خواہ جائے، لگایا نشان خاص ایک پر ماتھے یا ہاتھ دہنے کے ایک ہر کہ کروایا بھی یہ نے اُس

- 17 καὶ ἵνα μὴ τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ  
اور تاکہ نہ کوئی سکے خریدنا یا بیچنا مگر نہ وہ  
[G2532](#) [G2443](#) [G3361](#) [G5100](#) [G1410](#) [G0059](#) [G2228](#) [G4453](#) [G1487](#) [G3361](#) [G3588](#)
- ἔχων τὸ χάραγμα -- τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου, ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ  
رکھنے والا وہ نشان -- وہ نام اس حیوان کا یا وہ نمبر اس  
[G2192](#) [G3588](#) [G5480](#) [G3588](#) [G3686](#) [G3588](#) [G2342](#) [G2228](#) [G3588](#) [G0706](#) [G3588](#)
- ὀνόματος αὐτοῦ.  
نام کا اس کے  
[G3686](#) [G0846](#)

تھا۔ نمبر کا نام کے اس یا نام کا حیوان نشان یہ تھا۔ لگا نشان یہ پر جس تھا سکتا بیچ یا خرید کچھ شخص وہ صرف

- 18 Ὡδε ἡ σοφία ἐστίν. ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ  
یہاں وہ حکمت ہے جو ہے رکھتا ہے سمجھ گنے وہ نمبر اس  
[G5602](#) [G3588](#) [G4678](#) [G1510](#) [G3588](#) [G2192](#) [G3563](#) [G5585](#) [G3588](#) [G0706](#) [G3588](#)
- θηρίου: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν; καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ, ἑξακόσιοι  
حیوان کا نمبر کیونکہ انسان کا ہے اور وہ نمبر اس کا چھ سو  
[G2342](#) [G0706](#) [G1063](#) [G0444](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0706](#) [G0846](#) [G1812](#)
- ἑξήκοντα ἕξ.  
سائھ چھ  
[G1835](#) [G1803](#)

ہے۔ 666 نمبر کا اس ہے۔ نمبر کا مرد ایک یہ کیونکہ کرے، حساب کا نمبر کے حیوان وہ ہے دار سمجھ جو ہے۔ ضرورت کی حکمت یہاں